

قیامِ رمضان چند توجہ طلب امور

نور احمد شاہ تاز

ایک بار پھر ماو صیام کی آمد آمد ہے، ماو صیام اپنے ساتھ ہزاروں برکتیں اور لاکھوں نعمتیں لاتا ہے جن میں سے ایک اس کی راتوں میں قیام اور ساعتِ قرآن کریم ہے۔ یہ قیام نمازِ تراویح سے عبارت ہے۔

نمازِ تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تاکہ ماوِ رمضان میں نمازِ تراویح میں ایک بار مکمل قرآن کریم تلاوت کیا جائے، چنانچہ آپ کی قائم کروہ اس سنت پر دنیا بھر کے مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں۔

البتہ آج جس طرح سے ہم نمازِ تراویح میں ختم قرآن کرتے ہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دور میں ہوتے تو ہمارا یہ اندازِ تلاوت و ساعت قرآن دیکھ کر یا تو اس کی اصلاح کی خاطر بعض آئندہ تراویح اور منتقلیں تراویح کی تادیب فرماتے یا اس نسلکے کو سرے سے موقف فرمادیتے کیونکہ نماز تراویح میں جس تیز رفواری سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ نمازِ تراویح یعنی قیامِ رمضان کی اصل روح کے سراسر منافی ہے۔ نمازِ تراویح یا قیامِ رمضان کا مقصد تو یہ تھا کہ عام مہینوں کی پہ نسبت اس ماہ میں زیادہ دیر تک راتوں کو عبادت کی جائے اور قرآن کریم زیادہ اہتمام کے ساتھ کثرت سے تلاوت و ساعت کیا جائے لیکن بد قسمی سے ہمارے موجودہ معاشرے میں نمازِ تراویح میں ختم قرآن اب ایک رسم سے زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے حافظ یا امام کے پیچے نمازِ تراویح پڑھنا پسند کرتے ہیں جو انہیں جلد از جلد تراویح پڑھا کر فارغ کر دے، ایسے حافظ کرام کو پکا اور صحیح حافظ سمجھا جاتا ہے جو اجنبی تیز رفواری سے تلاوتِ قرآن کریں اور اس میں غلطی یا بھول چوک بھی نہ ہو، نوجوان طبقہ خاص طور سے اس طرف مائل دکھائی دیتا ہے اور اسکی بہت سی مساجد جہاں مناسب رفقاً سے تقلیل کے ساتھ، الفاظ کی صحیح ادا نگی کا لحاظ کرتے ہوئے نمازِ تراویح میں تلاوت ہوتی ہو، مقتدیوں کی زیادہ تعداد دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اب سرے سے ایسے لوگ ہی نہیں جو سکون و اطمینان سے تراویح میں تلاوت کلامِ حکیم حروف کی صحیح ادا نگی کے ساتھ سننا نہ چاہتے ہوں، بلکہ ایسے نیک لوگ اب بھی ہیں مگر اکثریت کا حال وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔

نماز کے تمام اركان کو شہرِ تھہر کر اور سکون سے ادا کرنا تبدیل اركان کہلاتا ہے۔ فتاویٰ

عالمگیری اور فقد و فاوی کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ تعلیل ارکان اعضاء کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ اعضاء کے سب جزو کم از کم ایک بار تائی پڑھنے کی مقدار نہیں جائیں، تیز رفتاری سے نماز تراویح میں یا کسی بھی نماز میں اگر تعلیل ارکان نہ ہو سکے جو کہ واجب ہے تو نماز ہی نہ ہوگی جن مساجد میں تیز رفتاری سے نماز تراویح پڑھی جاتی ہے وہاں یہ بات بطور خاص ثبوت کی گئی ہے کہ رکوع و تکوڈ اور قمود جلسہ میں اطمینان و سکون ہی مفقود ہوتا ہے خشوع و خصوص تو بعد کی بات ہے۔ بعض جگہ تو یہ بھی دیکھنے میں آپا ہے کہ امام نے نیت باندھ کر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور مقتدى ایسی شانہ نہیں پڑھنے پائے۔

اسی نماز سے کیا حاصل جس سے روی نماز ہی غالب ہوا اور پورا زور کی نہ کسی طرح بیس رکعت کی تعداد پوری کرنے اور ان میں جلد از جلد سوا یا ڈیڑھ پارہ ختم کرنے پر صرف ہو رہا ہو، خدار اس عمل کی حوصلہ ٹھنی کیجئے، آخر تراویح کو اس بات کا پابند کیجئے کہ وہ تیز رفتاری سے نماز نہ پڑھائیں۔ نوجوانوں اور اپنے بچوں اور ساتھیوں کو اس بات پر آمادہ کیجئے کہ وہ اطمینان و سکون سے نماز پڑھنے کو ترجیح دیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اطمینان و سکون سے پڑھی ہوئی دور کعیں، جلد بازی اور بے سکونی کی بیس تراویح سے کہیں افضل ہیں۔ اسی طرح چھوٹی سورتوں کی پر سکون تلاوت سے ادا کی گئی تراویح کی نماز تیز رفتاری، جلد بازی اور بے سکونی کی ان بیس رکعتات سے افضل ہے جن میں آداب و قواعد تلاوت کا لحاظ کئے بغیر کسی طرح لشکم پشم ختم قرآن کرنا مقصود ہے۔

جو لوگ تراویح میں تیز رفتاری سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا جو تیز رفتار تلاوت سننا پسند کرتے ہیں تاکہ تراویح سے جلد فارغ ہو جائیں۔ انہیں یہ بات بھی جان لئی چاہئے کہ اتنی تیز رفتاری سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جس سے الفاظ پورے ادا نہ ہوں یا حروف اپنے صحیح خارج و صفات کے ساتھ ادا نہ ہوں یا مد و شد و غیرہ کا خیال نہ رہے یا دقت، وصل اور فصل کے قادر ہوں کو ظریانہ کر دیا جائے جائز نہیں اور ایسی تلاوت کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ جب اس کی نہیں ہوگی جو پڑھارہا ہے تو ان مقتديوں کی بھی نہیں ہوگی جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ امام تلاوت کے آداب کا لحاظ کئے بغیر پڑھ رہا ہے اس کے پیچے ہاتھ باندھ کھڑے ہیں کیونکہ نماز میں سکون اور طمانیت شرط ہے جو خشوع و خصوص کا باعث بنتی ہے اور اگر بے سکونی اور جلد بازی کا مظاہرہ ہوا تو اسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔

نماز تراویح میں قرآن نہانے کی اجرت مقرر کرنا ایسی قباحت ہے جو معاشرے میں تیزی سے پھیلی ہے، بعض مساجد میں تو ایسے اللہ والے لوگ مل جاتے ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے

قرآن کریم سنانے کو تیار ہوتے ہیں تاہم اسی مساجد کی بھی کی نہیں جہاں پہلے سے حافظاً قاری صاحب سے باقاعدہ اجرت طے کی جاتی ہے جسے عرف عام میں خدمت کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض حفاظ کرام (اللہ انہیں معاف کرے) طے کئے بغیر قرآن سنانے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حافظ صاحب طے تو نہیں کرتے مگر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس محلے سے اتنی رقم اختیام تراویح پر ملنے کی توقع ہے پھر اگر توقع سے کم ملے تو اس پر قیامت کے بجائے برملا اطمینان راضگی و بہی بھی فرماتے ہیں۔ نماز تراویح کے لئے یا قرآن پڑھنے یا سنانے کے لئے اجرت پہنچنی طے اور مقرر کرنا صحیح نہیں اور ایسے امام کے پیچے نماز نہیں ہوتی جو قرآن سنانے کی اجرت مقرر کرتا یا کرواتا ہے۔ لہذا مساجد کی انتظامیہ، کمیٹیوں اور حفاظ کرام سے بعد احترام درخواست ہے کہ وہ قرآن سنانے کی اجرت طے کر کے لوگوں کی نمازیں خراب کرنے سے باز رہیں۔

رمضان المبارک میں اکثر مساجد میں نماز تراویح میں لا ڈا اپنیکر استعمال کے جاتے ہیں، لا ڈا اپنیکر کا استعمال شرعاً جائز ہے یا ناجائز یہ بذاتی خود ایک نزاٹی مسئلہ ہے تاہم نظریہ ضرورت یعنی زیادہ سامنے و مقدمہ تک آواز پہنچانے کی غرض سے اکثر علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے لیکن اس جواز سے جو بے جا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ حد جواز سے تجاوز ہے، شہری محلوں میں مساجد عموماً قریب ہوتی ہیں اور لا ڈا اپنیکر کی آواز تیز ہوتی ہے جس سے ایک مسجد کی نماز تراویح کی آواز دوسروں میں با آسانی پہنچ کر وہاں کے نمازوں کے لئے باعث تکلیف بنتی ہے۔ نیز مساجد کی انتظامیہ اور منتظمین کو اللہ ہدایت دے تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہئے کہ جس طرح مساجد میں مرد حضرات نماز تراویح میں مشغول ہیں اسی طرح گھروں میں خواتین بھی نماز ادا کرتی ہیں، لا ڈا اپنیکر کی تیز آواز ان کی نماز میں یعنی خلل کا باعث بنتی ہے علاوہ ازیں تلاوت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو سامنے خاموش ہو کر اسے سنبھال علامہ کرام سے یہ دریافت کرنا ہے کہ خواتین جن تک لا ڈا اپنیکر کی آواز پہنچ رہی ہے وہ اس آواز پر توجہ دیں اور اس تلاوت کو نہیں جو آپ انہیں زبردست سنوارتے ہیں یا اپنی نماز پڑھتیں؟

آپ خود اپنی اداوں پر ذرا غور کریں
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

براہ کرم مساجد میں اوپر کے لا ڈا اپنیکر جن کی آواز باہر جاتی ہے، نماز تراویح کے دوران

حضرت نام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ: تمام لوگ فتنہ نام ہو حیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) کے پروردہ ہیں

تو بذر کئے تاکہ گھروں میں موجود یوڑے اور خواتین بھی اپنی نماز سکون سے ادا کر سکیں، ہاں البتہ مسجد میں موجود تمام لوگوں تک آفیزہ طاولت پہنچانے کی غرض سے (اگرچہ اس کے آپ شرعاً مکلف نہیں) صرف اندر ورنی اپنیکر استعمال کر لیا کریں تو بہت سوں کا بھلا ہو۔ بیر ورنی اپنیکر پر یہ پابندی مساجد کی انتظامیہ اور ائمہ حضرات مل جل کر خود ہی الگائیں تو بہتر ہے ورنہ عام مسلمانوں کے طالبے پر اکر کبھی کوئی شرعی یا غیر شرعی حکومت یہ پابندی لگائے گی تو اسے مداخلت فی الدین گردانا جائے گا اور بد مرگی پیدا ہوگی۔

رمضان البارک میں بڑے بڑے پوستر اور اشتہارات کچھ ان عنوانات کے ساتھ چھپتے ہیں، تین روزہ تراویح، چھروزہ تراویح، دس روزہ تراویح کا اعتمام وغیرہ وغیرہ۔

عام لوگ بالخصوص نوجوان طبقہ ایسے پروگراموں میں زیادہ پیش ہوتا ہے اگرچہ اس طرح ختم قرآن پر شرعاً کوئی پابندی نہیں لیکن آپ نائیں یہ نہ نمائیں کہ اس عمل خر سے بے عملی کا جو پہلو برآمد ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ بعض نوجوان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ تین روزہ یا چھروزہ تراویح میں اگر ختم قرآن ہو جائے اور اس میں شمولیت کر لی جائے تو پھر رمضان کی باقی راتوں میں تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی اور عملًا ایسا ہو رہا ہے کہ چھروزہ تراویح میں شامل ہونے والے اکثر نوجوان باقی ایام رمضان میں مسجد کارخ نہیں کرتے، یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اس عمل کو پسند کیا ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو مگر اس پر معاوضت یا تسلسل رہے اور اس کے مقابلے میں ایسا نیک عمل جو زور و شور سے ہو مگر اس پر معاوضت (تہقیقی) نہ کی جاسکے اور تھوڑے عرصے بعد اس کے اثرات زائل ہو جائیں وہ بہر کیف نظر احسان سے نہیں دیکھا جائے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ "نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر زیادہ دوام ہو خواہ وہ عمل کم ہی ہو۔" (صحیح مسلم) نماز تراویح پر معاوضت اور رمضان کی تمام راتوں میں قیام اور وہ بھی اطمینان و سکون کے ساتھ جسمی نہ تماہے جب سکون و اطمینان کے حصول کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور ایسے تمام طور طریقوں سے اجتناب کیا جائے جو اس ما مقدس کی مخصوص عبادت (قیام) تراویح میں بے سکونی و مبے اطمینانی کا باعث بنتے ہوں۔

رمضان کی راتوں میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ شروع کی تین چار راتوں میں مساجد میں نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ کم ہو کر نصف تک جا پہنچتی ہے اس **لام محمد نوریں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کائن ولادت ۱۵۰ جمیری نور سن وفات ۲۰۳ جمیری ہے**

کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو طویل نمازیں پڑھنے کے عادی نہیں یا سرے سے نمازی نہیں پڑھتے مگر احرام رمضان و جس شیطان کی وجہ سے مساجد میں آنے لگتے ہیں تین چار رات مسلسل ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ قام کر کے تحکم جاتے ہیں اور پھر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایسا اہتمام ہو کہ ہر حملہ میں کم از کم ایک مسجد ایسی ہو جہاں چھوٹی سورتوں سے نماز تراویح پڑھانے کا انتظام ہو تو عبادت کی خاطر رمضان میں مسجد کی طرف ایٹھنے والے یہ قدم جو دو چار دنوں میں تحکم کر رک جاتے ہیں ان میں دوام اور استقامت پیدا کی جاسکتی ہے اور اگر آخر حضرات ذرا سی توجہ دیں تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل میں مداومت (بیگنی) پیدا کرنے کے خواہ ہو جائیں گے اور ایک ماہ کا یہ کوئی انہیں رمضان کے بعد بھی عبادت کی طرف مائل ہی رکھے گا۔

بعض لوگ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح میں تو بڑے اہتمام اور ذوق و شوق سے شامل ہوتے ہیں مگر ہر کھانے کے بعد نیند سے مغلوب ہو کر فجر کی نماز جماعت سے اور وقت پر ادا نہیں کر سکتے اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہئے کہ نوافل کی وجہ سے کوئی فرض نہ چھوٹنے پائے دوسری طرف بعض حضرات جو رمضان کی راتوں میں شب بیداری کی دولت لوٹنا چاہتے ہیں وہ دن کے اوقات میں اپنے فرائض منصی (ذیوٹی) صحیح طور پر ادا کرنے کے بجائے چھپ چھپ کر سونے کی کوشش کرتے ہیں یا دیرے سے ذیوٹی پر جاتے اور آنکھ چپا کر جلد نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے رزقی حلال کمانے میں جزو یا نتداری و محنت مطلوب ہے وہ نہیں ہو پاتی اور یوں نظیں عبادت کی وجہ سے حقوق العباد میں کی ہو جاتی ہے جو کسی بھی صورت محسن نہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ نفلی عبادات میں اس طرح وقت لگایا جائے کہ فرائض خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباود سے متعلق، متاثر نہ ہونے پائیں۔

نماز تراویح کا تحقیقی لفظ جبکی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب اس کا اصل مقصد پیش نظر ہے اور وہ ہے حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کرتے ہوئے، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں اضافی طور پر قیام اللیل کی کوشش کرنا اور کامل اطمینان و سکون اور خشوع و خضوع سے نماز تراویح میں کلام حکیم کی ساعت کرنا تا کہ سابقہ گناہوں کی بخشش ہو سکے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت و ساعت کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے اس بار قیام و صیام رمضان کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

روزہ دار ہو شیار باش !

عن ابن عمر بر رضی اللہ عنہ فَالْ:

فَالْرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ الظَّانَّ لِذَلِكَ بِدْرَعٍ قَوْلُ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ قَلْبِسُ اللَّهِ
حَاجَةٌ فِي لَهُ بِدْرَعٍ طَعَامَةٌ وَسُرْكَلَهُ هُرُولَهُ (ترمذی)



حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ

جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا:

روزہ دار اگر

جھوٹ بولنے اور غلط کام کرنے سے بازنہ آئے
تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں

(سنن ترمذی)

(بندۂ خدا)